

مالیاتی اعانت کا خلاصہ برائے مریض آسان زبان میں خلاصہ



کلیدی سوالات جن کے جواب دئے گئے ہیں:

- کن خدمات کا احاطہ کیا جاتا ہے؟
- میں تعاون کے لیے کس طرح درخواست دوں؟
- تعاون کے لیے کون اہل ہوتا ہے؟
- آمدنی کی حدود کیا ہیں؟
- اگر میں آمدنی کی حدود پر پورا نہیں اترتا تو کیا ہوگا؟
- درخواست دینے کے لیے مجھے درخواست کہاں سے مل سکتی ہے؟

میموریل ہرمن ہیلتھ سسٹم

یہ دیکھنے کے لیے کہ آیا آپ مالیاتی اعانت، میڈیکل، میڈیکل، یا دیگر پروگرامز کے لیے اہل ہیں، اور درخواست دینے میں مفت رازدارانہ تعاون کے لیے رابطہ کریں:

Patient Business Services

909 Frostwood Dr., Suite 3:100
Houston, TX 77024

برائے توجہ: PBS Financial Assistance

فون: 713.338.5502 یا

1.800.526.2121، آپشن 5

ای میل: Patient.Billing@memorialhermann.org

جمعہ: 8 بجے صبح - 5 بجے شام

پیر - جمعرات: 8 بجے صبح - 7 بجے شام

ورژن تاریخ: نومبر 14، 2017

مالیاتی اعانت کی درخواست، مالیاتی اعانت کی پالیسی، آسان زبان میں خلاصہ، اور بلنگ اور وصولی کی پالیسی کی ایک مفت نقل درج ذیل کے ذریعہ انگریزی، ہسپانوی اور ان دیگر زبانوں میں دستیاب ہے جو مالیاتی اعانت کی پالیسی میں بیان کردہ معیاروں پر پوری اترتی ہیں:

- اسپتال کے داخلہ/رجسٹریشن ڈپارٹمنٹ سے رابطہ کر کے
- 713.338.5502 یا 1.800.526.2121 پر کال کر کے، آپشن 5

- بذریعہ ڈاک درخواست طلب کر کے:

909 Frostwood

PBS Financial Assistance

Houston, TX 77024

- میموریل ہرمن ہیلتھ سسٹم کی ویب سائٹ:
<http://www.memorialhermann.org/financialassistanceprogram/> سے ایک درخواست ڈاؤن لوڈ کر کے

میموریل برمن ہیلتھ سسٹم، اہل مریضوں کو آمدنی، خاندان کے حجم اور جزوی یا کلی تخفیف والے ہنگامی حالات کے لیے افلاس کی وفاقی سطح یا طبی لحاظ سے ضروری اسپتال کی نگہداشت کی بنیاد پر مالیاتی اعانت پیش کرتا ہے۔ مالیاتی اعانت چاہنے والے مریضوں کو اس پروگرام کے لیے ضرور درخواست دینی چاہیے، جس کا خلاصہ اس دستاویز میں بیان کیا گیا ہے۔

کن خدمات کا احاطہ کیا جاتا ہے؟

مالیاتی اعانت کی پالیسی (FAP) ہنگامی حالات اور طبی لحاظ سے ضروری خدمات کا احاطہ کرتی ہے جو کسی میموریل برمن ہسپتال میں فراہم کی جاتی ہیں۔

مالیاتی اعانت کی پالیسی درج ذیل کا احاطہ نہیں کرتی ہے: کاسمیٹک کارروائیاں، معالجین اور ان دیگر مہیاکنندگان کے ذریعہ فراہم کی جانے والی خدمات جو کسی میموریل برمن ہسپتال میں آپ کا علاج کرتے ہیں لیکن ہسپتال کے ملازم نہیں ہیں، یا وہ مہیاکنندگان جو اپنی خدمات کے لیے اسپتال سے علیحدہ بل جاری کرتے ہیں۔

کس طرح درخواست دیں

مالیاتی اعانت کی پالیسی اور درخواست شخصی طور پر، ڈاک کے ذریعہ، ٹیلیفون کے ذریعہ اور میموریل برمن کی ویب سائٹ سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ درخواست مکمل کریں، مطلوبہ دستاویزات شامل کریں اور اسپتال کے داخلہ/رجسٹریشن ڈپارٹمنٹ میں یا اس کتابچہ کی پشت پر درج پتہ پر جمع کر دیں۔

آمدنی کی حدود

اہل قرار دئے جانے والے عناصر میں سے ایک درج ذیل جدول پر مبنی آمدنی ہے:

2018 غربت کے رہنما خطوط	
سالانہ آمدنی	خاندان/گھرانے میں افراد
\$ 12,140	1
\$ 16,460	2
\$ 20,780	3
\$ 25,100	4
\$ 29,420	5
\$ 33,740	6
\$ 38,060	7
\$ 42,380	8

8 لوگوں سے زائد افراد والے خاندانوں/گھرانوں کے لیے: ہر اضافی شخص کے لیے \$4,320 کا اضافہ کریں۔

مالیاتی اعانت کا اہل کون ہوتا ہے؟

مالیاتی اعانت کی مقدار آپ کی آمدنی، خاندان کے حجم اور افلاس کی وفاقی سطح پر منحصر ہے۔ افلاس کی وفاقی سطح کی 200% یا اس سے کم کی خانگی آمدنی والے مریض 100% تخفیف کے لیے اہل ہو سکتے ہیں۔ افلاس کی وفاقی سطح کی 200% سے زیادہ کی گھریلو آمدنی والے مریض تخفیف کے لیے اہل ہو سکتے ہیں۔

پالیسی میں تفصیلی معلومات اس پر دیکھیں:

<http://www.memorialhermann.org/financialassistanceprogram/>

اہل مریضوں سے ہنگامی حالات یا دیگر طبی لحاظ سے ضروری نگہداشت کے لیے ان مریضوں سے جن کا بیمہ بے عام طور پر بل کردہ رقم (AGB) سے زیادہ نہیں چارج کیا جائے گا۔

تصویری شناخت کی درج ذیل صورتیں شناخت کے ثبوت کے لیے قابل قبول ہیں:

- اسٹیٹ سے جاری کردہ ڈرائیونگ لائسنس یا شناختی کارڈ
- طالب علم کا شناختی کارڈ
- پاسپورٹ (یو ایس یا بیرون ملک)
- یو ایس امیگریشن کی دستاویز
- بیرونی فونسل خانہ کی طرف سے جاری کردہ شناختی کارڈ
- کریڈٹ کارڈ (مع تصویر)